

## Letter from Director – May 27, 2020

**This document is provided in English with translation in Urdu as seen in page 2**

یہ ڈاکیومنٹ انگلش کے ساتھ نیچے دوسرے صفحے پر اردو میں بھی موجود ہے

Dear families,

I hope you and your families are healthy and well. Our staff miss seeing our students in person each day. I know I speak on behalf of all staff when I say, we look forward to seeing everyone as soon as it's safe to do so.

Your voice is important to us and we are asking for you to share your thoughts through a quick, [online survey](#) (Unfortunately, this survey is only available in English, however we do encourage you to use google translate to assist with the completion). We are hoping to learn your thoughts and ideas in real-time about the [Learning and Caring Plan](#), until the end of this school year and to inform decision making for our return in September.

You can participate anonymously and your responses will be confidential. As always, your participation is voluntary.

Your responses will help our Board assess and inform best practices related to our programs and services.

Thank you,

Louise Sirisko  
Director of Education

گھرانوں عزیز ،

گے۔ ہوں صحت مند اور سے خیریت عیال و اہل کے آپ اور آپ کہ ہے امید مجھے  
میں ہے۔ تا آ یاد بہت دیکھنا پر طور ذاتی روزانہ کو طلباء ہمارے کو عملے ہمارے  
کہتا یہ میں جب ہوں کرتا عرض سے کی جانب عملے تمام اپنے میں کہ ہوں جانتا  
ہوگا۔ محفوظ کرنا ایسا ہی جیسے ہیں چاہتے دیکھنا ازجلد سب کو جلد ہم کہ ہوں

آپ کہ ہیں کرتے عرض یہ سے آپ ہم اور قیمتی ہے بہت لیے ہمارے رائے کی آپ  
انگریزی صرف سروے یہ سے بدقسمتی ( کریں۔ سے ذریعے کے اظہار کا آراء اپنی  
کی حوصلہ آپ پر بات اس ہم مگر اور فوری اس سروے لائن آن بی میں زبان  
لئے کے معاونت ہے دستیاب ، میں کرنے کو مکمل سروے اس آپ کہ ہیں کرتے افزائی  
کے کے سال تعلیمی اس ہم کہ ہیں کرتے امید ہم ) کریں استعمال کا ٹرانسلیٹ گوگل  
کیئرنگ اینڈ لرننگ ( منصوبے کے نگہداشت اور سیکھنے نظریات کے آپ متعلق  
ہماری میں ماہ ستمبر کہ تاکہ گے سکیں ن جا میں وقت اصل تک اختتام ، ) پلان  
حاصل آگاہی سے ذریعے کے لیے اس کے سازی خیالات اور ، فیصلہ وقت کے واپسی  
ہوسکے۔

راز بصیغہ جوابات کے آپ اور میں سکتے لے حصہ بھی کے بغیر شناخت میں اس آپ  
طرح ہمیشہ کی اور ، ہے۔ رضاکارانہ کی شرکت آپ گے۔ رہیں

بورڈ متعلق کے مشقوں بہترین لیے کے خدمات اور لائحہ عمل ہمارے جوابات کے آپ  
گے۔ ہوں مفید ثابت میں دینے معلومات اور کرنے تشخیص کو

ناظم سیریسکو۔ لوئیس شکریہ ،